

ڈیزل استعمال کرنے سے متعلق حفاظتی امور

ڈیزل استعمال کرتے وقت تین بنیادی امور کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔

آگ لگنے کے امکانات:

← ڈیزل میں آگ پکڑنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے جتنی پٹرول اور بعض دوسرے ایندھن میں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر یہ آگ پکڑ لے تو اس کو بجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈیزل کے نزدیک سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔

جلد پر مضر اثرات:

← ہماری جلد ڈیزل کو بہت آسانی سے جذب کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں جلد پر جلن، جلد کا لال ہونا اور یہاں تک کہ آبلے پڑ جانے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔

سانس کے ذریعہ داخلے کے نقصانات:

← اگر ڈیزل کے بخارات سانس کے ساتھ اندر چلے جائیں، تو یہ دیگر علامات کے ساتھ چکر، متلی، اور خون کے دباؤ (High Blood Pressure) میں زیادتی کا باعث بن سکتے ہیں۔

ڈیزل کے مضر اثرات کو کیسے کم کیا جائے؟

← گاڑیوں یا مشینوں میں ڈیزل ہمیشہ ہوا دار جگہ پر بھریں۔

← اگر مشینوں، بالخصوص جنریٹر کا استعمال اندرونی یا بند جگہ پر ہو تو اس کے دھوئیں کی نکاسی کا غیر معمولی انتظام کریں۔ یاد رکھیں کہ ڈیزل کے دھوئیں کا اخراج پاور پلانٹ سے ہوا کی سمت میں اور لوگوں سے دور کریں۔

← ڈیزل استعمال کرتے وقت مناسب دستاں کا ضرور استعمال کریں۔

← BUTYL RUBBER GLOVES یا VINYLE کو ڈیزل استعمال کرتے ہوئے نہ پہنیں کیونکہ یہ ضروری تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔

← ڈیزل جنریٹرز گاڑیوں کو اچھی حالت میں رکھیں اور باقاعدگی سے ان کے ایگزاسٹ یعنی اخراج پر نظر رکھیں۔

← متعلقہ جگہ پر آگ بجھانے کے آلات کی موجودگی یقینی بنائیں۔